



Soneri Bank

ڈپازٹ پروڈکٹس کے لئے حقائق پر مبنی اہم بیان (01 جنوری 2026 سے مؤثر)

تاریخ

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔

برانچ

شمار

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

بہ معلومات مذکورہ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور مارک اپ ریٹ ششماہی بنیاد پر تبدیل کیے جاسکتے ہیں اور اس سے آپ کو مطلع کیا جاسکتا ہے۔ ہماری معیاری فیس / چارجز کے لئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا ہماری برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔

کرنٹ اکاؤنٹس

تفصیلات		سودہیری سرمایہ اکاؤنٹ (معاوضہ مع)	اختیار اور کرنٹ	پیشترز	پیک بینکنگ	لیڈر منسرف	آسان	آسان ریجمنٹس	کسان	ایس ایم ای کرنٹ اکاؤنٹ	
کرنسی		پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	پاکستانی روپے	
اکاؤنٹ کے لئے کم سے کم بیلنس	کھلوانے کیلئے	0 روپے	1,000 روپے	0 روپے	1,000 روپے	1,000 روپے	100 روپے	0 روپے	100 روپے	100 روپے	
	برقرار رکھنے کیلئے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	0 روپے	
اکاؤنٹ کی منیٹنس فیس		0 روپے	کرنٹ اکاؤنٹ صفر اختیار اکاؤنٹ 50/- روپے ماہانہ FED سمیت								
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے (متعلقہ اطلاق فیس کی شرح سے مشروط ہے)		متعلقہ اطلاق		متعلقہ اطلاق نہیں							
منافع بخش اشارے		Slab	Rate								
		Up to Rs. 999,999	0%								
		Rs. 1 Million to Rs. 2.49 Million	7%								
		Rs. 2.5 Million to Rs. 4.99 Million	8%								
منافع کی ادائیگی کی تعداد		ماہانہ									
مثلاً (1000 روپے پر آپ متعین کردہ مدت میں --- روپے کما سکتے ہیں)		Slab Rate	Profit Amount								
		Up to Rs. 999,999	Rs. 0/-								
		Rs. 1 Million to Rs. 2.49 Million	Rs. 70/-								
		Rs. 2.5 Million to Rs. 4.99 Million	Rs. 80/-								
		Rs. 5 Million and above	Rs. 90								
قبل از وقت / جھلا ٹیکسٹ / اغصلا کی فیس		متعلقہ اطلاق نہیں									

متعلقہ اطلاق نہیں

متعلقہ اطلاق نہیں



سروس چارجز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔
برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چارجز متبادل اطلاق فیکسز کے علاوہ ہیں۔

سروسز	اقسام	کرنٹ اکاؤنٹس							
		سٹوری سرمایہ کار (محدود حق)	اختیار اور کرنٹ	پیشترز	چیک بینکنگ	لیڈ منسٹرس	آسان	آسان ریجنٹس	کسان
تقدیم دین	انٹرسٹی	0 روپے							
	انٹراسٹی	0 روپے							
	بینک کے اے ٹی ایم سے وڈروال	0 روپے							
	دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے وڈروال	35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول ایف ڈی)							
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل / کلیئرنگ	0 روپے							
ایس ایم ایس ایف	دیگر ٹرانزیکشنز کے لئے	انٹراسٹی کے ذیلی اکاؤنٹس -300 روپے ماہانہ تمام کاروباری اور اداروں کے اکاؤنٹس بشمول واحد -ملکیت -500 روپے ماہانہ							
ڈیبٹ کارڈ (سالانہ چارجز)	پے پاک	پہلے سال کی سالانہ فیس	-3,000 روپے	25000 روپے ماہانہ اوسط بینک پر مشتمل روٹنگز پر کوئی فیس اگر ماہانہ اوسط بینک پر مشتمل ٹرانزیکشنز 2000 روپے چارجز کو کم ہوں گے				-3,000 روپے	
		اگستہ سالوں کی سالانہ فیس	-3,000 روپے	25000 روپے سالانہ اوسط بینک پر مشتمل روٹنگز پر کوئی فیس اگر ماہانہ اوسط بینک پر مشتمل ٹرانزیکشنز 2000 روپے چارجز کو کم ہوں گے				-3,000 روپے	
	ماسٹر کارڈ اسٹینڈرڈ	پہلے سال کی سالانہ فیس	4,000 روپے						متبادل اطلاق نہیں
	ماسٹر کارڈ گولڈ	5,000 روپے							
	ماسٹر کارڈ پرائمری	10,000 روپے							
	پلانچمن	سپیشل	6,000 روپے						
	چیک بک	احیاء	-30 روپے فی لیف						منفٹ
اسٹاپ پیمنٹ		کم از کم 800 روپے فی چیک زیادہ سے زیادہ 1,600 روپے فی واریٹ (کئی چیکس کی صورت میں)							
(چیک بک کی غلطی کے چارجز (اگر 45 دن کے اندر وصول نہ کی جائے)		متبادل اطلاق نہیں							
ترسیلات زر (معمانی)	بینکنگ چیک / پے آرڈر	ٹیکر کا چیک -550 روپے فی انٹرومنٹ سکیم وینڈر یا پاز کی رسید منفٹ						منفٹ	منفٹ
ترسیلات زر (غیر ملکی)	مٹارن ڈیسٹ ڈرافٹ	-20 ڈالر یا مساوی بشمول سوئفٹ چارجز						متبادل اطلاق نہیں	
	وائزر ٹرانسفر	-45 ڈالر یا مساوی بشمول سوئفٹ چارجز						متبادل اطلاق نہیں	
	پاکستانی روپیہ اکاؤنٹ کیلئے FTT/FDD کے احیاء کے سروس چارجز	0.10% یا کم از کم -1000 روپے						متبادل اطلاق نہیں	
اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	سالانہ / ششماہی	0 روپے							
	فصل	35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی (بشمول ایف ڈی ہر 6 ماہ میں اضافی 35 روپے یا دیگر کرنسیوں میں مساوی ہر 6 ماہ کیلئے وصول کے حساب سے)							
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل چیسٹر	0 روپے							
فٹڈر ٹرانسفر	آئی ٹی ایف ٹی	-25,000 روپے ماہانہ تک - /0 روپے -25,000 روپے سے زائد 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ڈی)							
ڈیجیٹل بینکنگ	فون / موبائل / انٹرنیٹ بینکنگ سبک پریشن (ایک دفعہ اور سالانہ)	0 روپے							



Soneri Bank

سروس چارجرز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجرز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجرز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com دیکھ سکتے ہیں۔
برائے مہربانی نوٹ کریں کہ تمام بینک چارجرز متبادل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔

سروسز	اقسام	سرویری سرمایہ لاؤنڈ (مصدقہ حق)	اختیار اور کسٹ	پیشتر	بینک ٹیکس	لیڈر منسٹرس	آسان	آسان ریمیٹنس	کسان	ایس ایم ای کریڈٹ اکاؤنٹ
ٹارمسل										0 روپے
کلیئرنگ	انٹرنسٹی									400 روپے فی انسٹرومنٹ
	اسی دن									600 روپے فی انسٹرومنٹ
اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست									0 روپے

لازمی معلوم ہونا چاہئے

اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینک کی داخلہ پالیسی کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ وقت فوقت ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ براہ مہربانی مزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔ چیک پالیسی: بے ایمانی سے چیک کا اجبرا پاکستان بینک کوڈ کی دفعہ 489F کے مطابق مجرمات غفلت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی احتیاط کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔ سیف کلائی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی کے نولز کی محفوظ تحویل جیسے ڈیٹ کارڈز، پن کوڈز، چکیس، ای بینکنگ یوزر نیمز، پاس ورڈز، دیگر ذاتی معلومات، وغیرہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی جانب سے سیکورٹی خطرات کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ معلومات کے حصول کیلئے سونیری بینک کی جانب سے آپ کو کبھی بھی کال نہیں کی جائے گی۔ ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم مواصلات کی محرومی سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے پاس موجود پروفائلز / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرانے کے لئے متعلقہ برانچ سے رجوع کر سکتے ہیں۔	غیر دعویٰ شدہ فنانس: بینک کمپیوٹر (ترتیبی) ایکٹ، 2024 کے سیکشن 31 کے تحت، وہ تمام فنانس جو گزشتہ 15 سال کے عرصے سے غیر فعال رہے ہیں، ماسوائے کسی تابلغ یا حکومتی یا کسی عدالتی نام پر فنانس، متاثراتی امور کی اختتام دہی کے بعد متعلقہ بینکوں کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔ حوالہ شدہ فنانس متعلقہ بینکوں کے ذریعے کلیم کئے جاسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی اپنی متعلقہ برانچ سے رجوع کریں۔ اس اکاؤنٹ کی بندش: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے دستخط شدہ اکاؤنٹ بندش کی درخواست جمع غیر استعمال شدہ چیک بک اور ڈیٹ کارڈ (اگر کوئی ہو) اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کروائیں۔ مانسٹر اکاؤنٹ: بالغ یعنی 18 سال کی عمر تک پہنچنے پر سابق تابلغ کو تمام ضروری دستاویزی کارروائی کی تکمیل اور CCD کے بعد نیا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ بینک نئے اکاؤنٹ کھولنے اور اس میں فنڈز ٹرانسفر ہونے تک سابق مانسٹر اکاؤنٹ کے ڈیٹ پر پابندی لگا سکتا ہے۔ آپ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟ برائے رابطہ: سونیری بینک لینڈ-کلیئٹ منیجمنٹ یونٹ، کسٹمر ایکسپریس فنانس فنانس، پبلی منزل، الرجم ٹاور، آئی آئی چند ریگر روڈ، کراچی۔ ٹیلی فون نمبر: 021111567890، 021111567890، 2548 اور 2962 کلائنٹ سینٹر: 021-111- SONERI (766374) ای میل: complaint.suggestion@soneribank.com ویب سائٹ: www.soneribank.com اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں: کراچی سیکریٹریٹ، بینکنگ محکمہ پاکستان سیکریٹریٹ پانچویں منزل، شاہین کپلیکس، ایم آر کمانی روڈ، کراچی ٹیلی فون نمبر: 9221-99217334 فیکس: 9221-99217375 ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk
---	---

میں حق تلفی پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں

کسٹمر کا نام	تاریخ
منتخب شدہ پروڈکٹ	
اکاؤنٹ میسج	
پتہ	
برائے رابطہ	ای میل ایڈریس
کسٹمر کے دستخط	تصدیق شدہ دستخط